



آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا تو اچھی بات ہے
رو رلا کر درد سہہ جانا تو اچھی بات ہے

کہہ دیا جو منہ میں آیا، یہ ضروری تو نہیں
کچھ نہ کچھ دل میں ہی رہ جانا تو اچھی بات ہے

دن بتائے بھی مجھے چھوڑا ہے لوگوں نے کئی
آپ کا یہ صاف کہہ جانا تو اچھی بات ہے

آپ ایسے مشورے غیروں کو جا کر دیجیے
اُن سے کہیے ناں کہ سہہ جانا تو اچھی بات ہے

میں اسے اپنی شکستِ فاش کیسے مان لوں
اس کے آگے میرا ڈھہ جانا تو اچھی بات ہے

ضبط سے کوئی نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے عباد
اشک بن کر غم کا بہہ جانا تو اچھی بات ہے

<https://emad-ahmad.com/>